

ما الإبهامية أو ما النكرة التامة المبهمة

The completely indefinite and vague ma / Maa for Ambiguity

بعض اوقات "ما" الاسمية ابہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مخاطب اپنی بات مُبہم رکھتا ہے، جس کے مختلف مطلب لیے جاسکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ "کسی یا کوئی" کے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔

Sometimes Maa Allsmiyah is used for ambiguity. The speaker keeps his words vague which can be interpreted in different meanings. This Maa is translated as 'any/some'.

اس کا معنی واضح نہیں ہوتا اس لیے اس ما کا نام ما النكرة التامة المبهمة (مکمل نکرہ مبہم ما) ہے اور مختصر اسکو ما الإبهامية بھی کو کہتے ہیں۔

Its meaning is not clear, therefore it is named as Maa AnNakirah AtTammah AlMubhatu, 'the completely indefinite and vague Maa'. It is also called in short as Maa Allbhaamiyah.

ما الإبهامية ہمیشہ اپنے ما قبل نکرہ اسم "کی نعت بن کر آتا ہے۔ اس لیے اس کا اعراب ما قبل منوعات کے مطابق محلاً ہوتا ہے۔ مثالوں پر غور کریں۔

Maa Allbhaamiyah always occurs as a Naat of its preceding Nakirah Ism. So its Ea'raab is Mahalli according to its Manu'oot. Look at the examples:

جئتُ لِأَمْرٍ مَا میں کسی کام کے لیے آیا ہوں۔ I have come for something.

أَعْطِنِي كِتَابًا مَا مجھے کوئی کتاب دو۔ Give me any book.

رَأَيْتُ فِي مَكَانٍ مَا میں نے اسے کسی جگہ (کہیں) دیکھا ہے۔ I have seen him somewhere.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقرة: 26)

بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے چھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے

Indeed, Allah is not timid to present an example - that of a mosquito or what is smaller than it.

اس آیه میں مَثَلًا اسم نکرہ منوعات ہے اور ما الإبهامية اسکی نعت ہے اس لیے مبني علی سکون فی محل منصوب ہے۔

In this ayah 'Masalan' Ism Nakirah is Mana'ut and Maa Allbhaamiyah is its Naat. That's why it is 'Mabni Ala Sukoon Fi Mahalli Nabin'.